

Translation:

On this planet, it is very difficult to survive safe the life from unnatural and accidental death, not only human but animals also have ^{this} awareness. Animal's life observers also know to, the **Observers of wildlife** animals belong from different species **live** **belonging** together, travel together for the search of food. They never **try** to destroy each other in the struggle of acquisition of food. They only gobble living things for survival because if they **do not** do this, their survival **became** in danger. However, their **gobbling** activity **ends** where their hunger **ends**. In contrast human's hunger **never ends** **life span**. During their life span, they **are never satiated**, they never filled even they all gulp and at last, it filled with grave's sand. However, History

Do not translate word by word. Use idiomatic expressions.

also claimed that: in every era,
everyone trying to create a
~~united~~ for mutual love between
human.

It is important to follow the principles of mutual coexistence to save life on this planet from destruction, annihilation and unnatural death.

Not only human beings but also animals are aware of it.

Q.No.9

Translate the following passage into English.

(15 Marks)

اس کرہ ارض پر زندگی کو تباہی، بربادی اور غیر فطری و غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے ہتھکنڈے باہمی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جنگلی حیات کا معمولی مشاہدہ کرنے والوں کو بھی یہ علم ہے کہ حیوانوں کی مختلف انواع کے جانور باہم مل جل کر رہتے ہیں۔ چارے پانی کی تلاش میں اجتماعی سفر کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے رہتے ہیں، اپنی خوراک کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کو فنا کر دینے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ درندے اگر چندوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں تو اس لئے کہ وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی ہتھکنڈے میں پڑ جائے گی۔ تاہم ان کی چیر پھاڑ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ درندوں کے برعکس انسان ہیں کہ ان کی بھوک ان کی زندگی میں کبھی مٹی نظر نہیں آتی، ان کا پیٹ جیتے جی ممکن حد تک سب بڑپ کر لینے کے باوجود نہیں بھرتا، تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ تاہم تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دور ایسا نہیں رہا جو انسانوں میں باہمی محبت کی جوت جگانے والوں کی جدوجہد سے خالی رہا ہو۔